

FA Part 2 Home Economics Chapter 2 Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	زمین کے اندر اگئے والی چیزیں ہیں۔	A. کیلا، الو ، شکر کنڈی B. الو ، شکر کنڈی C. مٹر، پیاز D. کوئی نہیں.
2	انڈے اور اس سے بنی ہوئی غذاوں میں مکمل پروٹین کے علاوہ وثامن ہے۔	A. اے ، فولاد اور کلائیم B. بی، سے، ڈی C. بی ، فولاد اور کلائیم D. کوئی نہیں.
3	جب غذائیت کی کمی حد سے بڑھ جائے تو انسان کی جو صورتحال پوچھتی ہے اسے	A. فربیکل نیوٹریشن B. کیمیکل میں نیوٹریشن C. الف اور دوونوں D. کوئی نہیں.
4	بماری تدریسی اور صحت کا دارو مدار ہے	A. آب و بوا پر B. پائی پر C. نسلستہ پر D. متوازن غذا پر
5	متوازن غذا سے مراد ہے	A. تمام اجرا کم ہوں B. تمام اجرا زیادہ ہوں C. تمام اجرا مناسب مقدار میں ہو D. کوئی نہیں.
6	کچھ لوگ کون سی مشقت سے زیادہ زبانی کام کرتے ہیں	A. نفسیاتی مشقت B. ذہنی مشقت C. جسمانی مشقت D. کوئی نہیں.
7	غذا کو استعمال کرتے ہوئے انسان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے	A. دولت کا B. عمر کا C. عقل کا D. صفاتی کا
8	خوارک کا انتخاب کرتے ہوئے کیا چیز قدرتی طور پر خود ہی اثر انداز ہوتی ہے	A. پائی B. موسم C. ماحول D. آب و بوا
9	حرارت کو کون سی مقدار پائی کے درجے حرارت کو ایک سیستی گریڈ تک بڑھادیتی ہے	A. ایک کلو گرام B. چار کلو گرام C. اٹھ کلو گرام D. دس کلو گرام
10	بماری غذا میں کتنے غذائی اجزاء ہیں	A. تین B. چار C. چھ D. نو